

ٹرمپ کی جھنجھلاہٹ آپکی کامیابی کی غماز ہے

تحریر: حامد کمال الدین

خاصی حیرت ہوتی ہے ہمارے بہت سے فضلاء #ٹرمپ کی حالیہ جھنجھلاہٹ کو پاکستان کی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں! حالانکہ معاملہ سو فیصد اس کے برعکس ہے اور یہ بات اللہ کے فضل سے اظہر من الشمس ہے۔

غالباً 'تجزیہ' ہمارے ہاں کوئی #واویلا کرنے کا نام ہے لہذا جب تک وہ نہ کیا جائے #تجزیہ نہیں ہوتا۔ یا پھر اس بات کا کہ مسلمانوں کی ہر پیش رفت کو ناکامی بنا کر دکھایا جائے اس لیے کہ صورتحال سو فیصد وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں!!!

حضرات اس وقت آپ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور آپ کے آپشن بھی اب نسبتاً بہت زیادہ ہیں۔ کچھ بڑے دیوبیکل واقعات آنے والے دنوں میں ہونے کو رُو نما ہو سکتے ہیں، یہ سچ ہے، اور ان کے لیے تو آپ کو ہر حال میں تیار رہنا ہی تھا، کہ آنے والے دن ہیں ہی ایسے (کہ جنہیں کچھ عظیم الشان عالمی تبدیلیوں کا حمل ٹھر چکا ہوا ہے) خواہ آپ کچھ بھی کر لیں یا کچھ بھی کر لیتے۔ لیکن ان دیوبیکل واقعات کا اب پیش آنا ان شاء اللہ اتنا خوفناک نہیں جتنا آج سے پندرہ اٹھارہ سال پہلے ہوتا۔ لہذا اب اگر آپ ان کا سامنا کریں گے، اور یقیناً کرنا ہو گا اور حوصلہ و بہادری سے کام لینا ہو گا، تو اب نسبتاً ایک اچھی پوزیشن میں آپ ان

کا سامنا کریں گے۔ باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے؛ جنگ میں کسی بات کی ضمانت بہر حال آپ کو نہیں دی جا سکتی۔

بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے، عالم اسلام کس پاتال سے اٹھ کر اوپر آ رہا ہے، آئیڈیلسٹوں کے لیے میرے نزدیک فی الوقت یہاں پائے جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ (معذرت کے ساتھ)۔ آپ کا کوئی بھی آپشن فی الواقع آئیڈیل آپشن نہیں۔ ہر نسبتاً قابل عمل آپشن کے ساتھ بیسیوں مصیبتیں ہیں اور جس آپشن کے ساتھ فی الوقت آپ کو بیس کی بجائے انیس مصیبتیں نظر آئیں وہی اندریں حالات ایک بہترین آپشن ہے باوجود اس کے کہ عالم اسلام کے کسی اچھے دور میں وہ ہمارے لیے ایک بدترین آپشن ہوتا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ کئی سو سال کے خراٹے آپ کو صدیوں کے حساب سے پیچھے لے جا چکے ہیں، لہذا ایک لمحے میں اس صورتحال سے نکل آنا ممکن نہیں۔ اس بات کا ادراک اس معاملے کو دیکھنے کا پہلا زینہ ہے۔ اس زینے پر چڑھ کر اس عالمی گریٹ گیم کو دیکھیں، اور عالم اسلام کا پھر سے اس عالمی اسٹیج پر کسی درجے میں ابھرنا دیکھیں تو ان شاء اللہ آپ برا نہیں جا رہے۔ ہاں اس زینے پر کھڑے نہ ہونے کے باعث آپ اصل ویو view سے محروم ہیں تو ہر بال پر چھکا نہ لگنا آپ کو شدید مایوس کر سکتا ہے! خود یہی بات کیا باعث حیرت نہیں کہ ہر موقع پر یہاں آپ قومی غلطیوں پر مسلسل چیخ رہے ہیں، جبکہ عالمی سیناریو پر آپ دن بدن بہتر پوزیشن پر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟! (داخلی صورتحال پر میں فی الحال بات نہیں کر رہا، عالمی منظر نامے پر عالم اسلام کی پیش قدمی پر بات ہو رہی ہے؛ جو لاکھ قربانیوں اور آزمائشوں کے باوجود بہر حال ایک حقیقت ہے،

ہمارے عالمی جہاد کے حوالے سے بھی اور ہمارے کچھ مسلم ملکوں کے مسلسل طاقت پکڑتے چلے جانے کے حوالے سے بھی)۔ آخر کچھ تو صحیح ہو گا جس کے باعث آپ کا دشمن واشنگٹن تا دہلی روہانسا نظر آ رہا ہے۔

البتہ سب سے بڑی حیرت یہ کہ دشمن کی جہنجھلاہٹ پر زیر لب مسکرانے کی بجائے خود آپ کے واویلے شروع ہو جائیں 'دیکھا ہم نے کیسا غلط کام کر دیا؟' بھائی کچھ تو خود اعتمادی سے کام لو۔

اس سلسلہ میں ہم نے مضامین کی ایک سیریز شروع کی تھی جس کے کئی حصے دینا ابھی باقی ہیں۔ سیریز کے تاحال شائع ہو چکے مضامین:

چند مسلم ممالک اتنی سی طاقت بھی کیونکر حاصل کر سکے؟

عالم اسلام کے گرد گھیرا، 'پوسٹ کولڈوار' سیناریو سمجھنے کی ضرورت

کافر کی ہمارے خلاف جنگ کا پہلا محور: "مسلمان" کو کسی بڑی جغرافیائی اکائی کے طور پر روئے زمین سے ختم کر ڈالنا

دشمن صرف آپ کا "آج" نہیں دیکھتا